



مجھ کے یہ بات پسند نہیں کی میرے پاس اس احد پہاڑ کے برابر سونا ہے، پھر مجھ پر تین دن گزر جائیں اور میرے پاس اس میں سے ایک دینار بھی موجود ہے، ماسوا اس شخص کے جس میں قرض کی ادائیگی کے لیے سنبھال کر رکھ لوں اس کے سوا جتنا کچھ بھی ہے وہ میں اسے اللہ کے بندوں میں اس طرح، اس طرح اور اس طرح تقسیم کردوں۔

ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کے ساتھ مدینہ کے ایک حرم (کالہ پتھر والی زمین) پر چلا جا رہا تھا کہ ہمارے سامنے احد پہاڑ آگیا آپ نے فرمایا: ابوذر! میں نے جواب دیا: میں حاضر ہوں اللہ کے رسول! آپ نے فرمایا: مجھ کے یہ بات پسند نہیں کی میرے پاس اس احد پہاڑ کے برابر سونا ہے، پھر مجھ پر تین دن گزر جائیں اور میرے پاس اس میں سے ایک دینار بھی موجود ہے، ماسوا اس شخص کے جس میں قرض کی ادائیگی کے لیے سنبھال کر رکھ لوں اس کے سوا جتنا کچھ بھی ہے وہ میں اسے اللہ کے بندوں میں اس طرح، اس طرح اور اس طرح تقسیم کردوں اپنے دائیں، بائیں اور پیچھے کی طرف اشارہ کیا پھر آپ چل دیے اور فرمایا: زیاد مال و دولت والا ہے روز قیامت (اجر و ثواب میں) بہت کم ہوں گے، ماسوا اس شخص کے جس نے مال کو اس طرح، اس طرح اور اس طرح اپنے دائیں، بائیں اور پیچھے خرچ کیا ہوگا، لیکن ایسا کرنے والا کم ہے پھر آپ نے مجھ سے فرمایا: اپنی اس جگہ سے تب تک نہ بٹنا جب تک میں تمہارے پاس نہ آجاؤں پھر آپ رات کے اندھیرے میں چل دیے یہاں تک کہ اوجھل ہو گئے پھر میں نے ایک بلند آواز سنی مجھے اندیشہ لاحق ہوا کہ میں کوئی شخص نبی کو نقصان پہنچانے کے درپے تو نہیں ہو گیا میں نے آپ کے پاس جانے کا ارادہ کیا لیکن مجھ سے آپ کا فرمان یاد آ گیا کہ میرے آنے تک اپنی جگہ سے نہ بٹنا چنانچہ میں وہاں سے نہ بٹا یہاں تک کہ آپ میرے پاس تشریف لے آئے میں نے کہا: میں نے ایک آواز سنی تھی جس کی وجہ سے مجھے خوف لاحق ہو گیا تھا میں نے ساری بات آپ کو بتا دی آپ نے فرمایا: کیا تم نے وہ آواز سنی تھی؟ میں نے جواب دیا: جی ہاں آپ نے فرمایا: یہ جبریل علیہ السلام تھے جو میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا: آپ کی امت کا جو شخص اس حال میں مر جائے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا ہو تو وہ جنت میں جائے گا میں نے پوچھا: اگرچہ وہ زنا کرے اور چوری کرے؟ فرمایا: اگرچہ وہ زنا اور چوری کرے۔

[صحیح] [متفق علیہ]

حدیث کا مفہوم: ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ نبی کے ساتھ مدینہ میں کالہ پتھروں والی زمین (حرم) پر چلا جا رہا تھا کہ سامنے احد پہاڑ آگیا تو رسول اللہ نے فرمایا: ”اگر میرے پاس اس احد پہاڑ کے برابر سونا ہوتا تو مجھ کے یہ بات بالکل پسند نہ ہوتی کہ مجھ پر تین دن گزر جائیں“ یعنی یہ بات مجھے خوش نہیں کرتی کہ تین دن گزر جائیں اور اس میں سے میرے پاس کچھ بچا رہے ایک دینار بھی نہ رہے، ”ما سوا اس شخص کے جس میں قرض کی ادائیگی کے لیے سنبھال کر رکھ لوں“ یعنی اگر میرے پاس احد پہاڑ کے بقدر خالص سونا ہوتا تو میں وہ سارا کا سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا اور اس میں سے کچھ بھی باقی نہ چھوڑتا سوائے اس شخص کے جس کی مجھے حقوق پورا کرنے اور قرضوں کی ادائیگی کے لئے ضرورت ہوتی اور جو کچھ اس سے زائد ہوتا تو میں اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتا کہ تین دن گزر جائیں اور اس میں سے کچھ بھی میرے پاس باقی رہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کو دنیا میں بالکل بھی رغبت نہیں تھی کیونکہ آپ نے نہیں چاہا تھا کہ مال جمع کریں

سوائے اس شخص کے جسے آپ نے قرض کی ادائیگی کے لیے سنبھال رکھا ہے نبی کی جب وفات ہوئی تو آپ کی زرے ایک یہودی کے پاس کچھ جو کہ بدلا رہے ان میں رکھی ہوئی تھی جسے آپ نے اپنے اہل خانہ کے لیے لیا تھا اگر اللہ عز و جل کے نزدیک دنیا محبوب ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اس سے محروم نہیں رکھتا لیکن دنیا ملعون ہے اور اس میں جو کچھ ہے وہ بھی ملعون ہے سوائے اللہ کے ذکر اور اس سے متعلق چیزوں کے اور سوائے عالم اور معلم کے اور ان کاموں کے جو اللہ کی اطاعت گزاری میں ہوں پھر آپ نے فرمایا: ”زیادہ مال و دولت والا ہی روز قیامت (اجر و زواہ میں) بہت کم ہوں گا“ یعنی جن کے پاس دنیا کی کثرت ہو گی قیامت کے دن ان کے پاس نیک اعمال کی کمی ہو گی کیونکہ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس کے پاس دنیا کے مال کی کثرت ہو جاتی ہے وہ استغنا اور تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اللہ کی اطاعت سے روگردانی کرنے لگتا ہے کیونکہ دنیا اسے غفلت میں ڈال دیتی ہے چنانچہ وہ دنیا میں تو بہت مال والا ہوتا ہے لیکن آخرت میں نہی دامن ہوگا جس نے اس طرح، اس طرح اور اس طرح دیا“ یعنی مال کو، اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ”اور ایسے لوگ کم ہی ہیں“ یعنی جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں وہ بہت کم ہیں پھر فرمایا: ”جو بھی اس حال میں مر گیا ہے وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا اگرچہ وہ زنا کرے اور چوری کرے“ اس سے یہ مراد ہے کہ زنا اور چوری بہت گناہ ہیں بلکہ یہ بہت ہی بڑے گناہ ہیں اسی لیے تو ابو ذر رضی اللہ عنہ کو یہ بات بہت بڑی لگی اور انہوں نے پوچھا کہ ”اگرچہ وہ زنا کرے اور چوری کرے“ آپ نے فرمایا: ”اگرچہ وہ زنا کرے اور چوری کرے“ ایسا اس وجہ سے ہے کہ جو شخص حالت ایمان میں مر جاتا ہے اور اس پر کبیرے گناہ ہوتے ہیں تو (ایسے لوگوں کے بارے میں) اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ”یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کئے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے“ سو سکتا ہے کہ اللہ اس شخص کو معاف کر دے اور اسے عذاب (بھی) نہ دے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اسے عذاب دے، تاہم اگر عذاب دے گا بھی تو بالآخر وہ جنت میں ہی جائے گا کیونکہ ہر وہ شخص جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو اور نہ ہی اس نے کسی کفریہ بات کا ارتکاب کیا ہو تو وہ بالآخر جنت میں جائے گا البتہ جس نے کسی کفریہ عمل کا ارتکاب کیا اور اسی پر اس کی فوات ہوئی ہو تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور اس کا عمل رائیگاں جائے گا کیونکہ منافقین رسول اللہ سے کہا کرتے تھے: تَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ”م گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں“ وہ اللہ کا ذکر تو کرتے تھے لیکن بہت کم اور نماز تو پڑھتے تھے لیکن: وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى ”اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کالی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں“ اس کے باوجود وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے یہ حدیث دنیا سے ہر رغبتی اختیار کرنے کی دلیل ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو اپنا دل اس دنیا میں نہیں لگانا چاہیے اور یہ کہ دنیا اس کے ہاتھ میں ہو، دل میں اس کی جگہ نہ ہو تاکہ وہ اپنے دل کے ساتھ اللہ عز و جل کی طرف متوجہ ہو یقیناً یہی کمال زندگی ہے اس کا یہ معنی نہیں کہ آپ اس دنیا میں سے کچھ بھی نہ لیں، بلکہ جو چیز آپ کے لیے حلال ہو وہ لیں اور اس میں سے اپنا حصہ نہ بھولیں لیکن اسے اپنے ہاتھ میں رکھیں، اپنے دل میں اسے جگہ نہ دیں اور یہی اہم بات ہے

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/3916>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

